

ہائی اسکول داخلے جدید معلومات – SHSAT رجسٹریشن اور ٹیسٹنگ

عزیزی اہل خانہ،

اسکول واپسی پر خوش آمدید! تمام موجودہ گریڈ 8 اور پہلی بار گریڈ 9 کے طلباء جو نیو یارک شہر میں رہتے ہیں وہ تعلیمی سال 2021-2022 کے لیے متخصص ہائی اسکولوں کے لیے درخواست اور امتحان اور / یا آڈیشن دے سکتے ہیں۔ اکتوبر کے وسط میں، آپکو اپنے بچے کا استقبالیہ خط ملے گا ان تفصیلات کے ساتھ کہ اپنے مائی اسکولز اکاؤنٹ تک کیسے رسائی حاصل کریں اور حصہ لیں۔

SHSAT جدید معلومات

آج، ہمارے پاس جدید معلومات ہیں ان طلباء کے لیے جو آٹھ امتحان لینے والے متخصص ہائی اسکولوں میں درخواست دینا چاہتے ہیں۔ آپ ان اسکولوں میں رجسٹر کروا کر اور پھر متخصص ہائی اسکول داخلہ امتحان (SHSAT) لے کر درخواست دے سکتے ہیں؛ پیشکشیں ہر طالب علم کے SHSAT اسکور، انکی اسکول ترجیحات، اور نشست کی دستیابی کی بنیاد پر کی جاتی ہیں۔ ذیل میں بتایا گیا ہے کہ کس وقت کیا کرنا ہے:

- تیاری کریں! امتحان کی تفصیلی معلومات، نمونے کے امتحانات، اور امتحان کی سہولیات کے بارے میں معلومات ہماری ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔
- رجسٹر کروائیں۔ رجسٹریشن وسط اکتوبر میں شروع ہوگی۔ مخصوص رجسٹریشن کی تواریخ جلد ہی دستیاب ہونگی۔
- امتحان۔ تمام رجسٹر ہونے والے طلباء SHSAT دسمبر 2021 میں امتحان لیں گے۔ جب امتحان کی مخصوص تواریخ اور دیگر معلومات دستیاب ہونگی ہم تجدید بھیجیں گے۔

انتظار کریں! مزید معلومات جلد ہی آرہی ہیں، بشمول ...

- اپنی ہائی اسکول درخواست کب جمع کروائیں، شہر کے 700+ پروگرام انتخابات میں سے زیادہ تر میں درخواست دینے کا طریقہ۔
- فیوریلو ایج۔ لگوارڈیا ہائی اسکول آف میوزک اینڈ آرٹ اینڈ پرفارمنگ آرٹس، نیویارک شہر کا آڈیشن متخصص ہائی اسکول، جو داخلے کا ایک علیحدہ طریق کار استعمال کرتا ہے، میں پروگراموں کے لیے کب اور کس طرح رجسٹر کروائیں۔
- شہر بھر میں ہائی اسکولوں میں فنون کے پروگراموں کے لیے کس طرح آڈیشن دیں، بشمول لگوارڈیا۔

اس وقت کیا کرنا ہے

- تازہ ترین معلومات کے لیے schools.nyc.gov/High اور schools.nyc.gov/SHS پر جائیں اور وڈیو سلسلہ دیکھیں یہ جاننے کے لیے کہ ہائی اسکول داخلوں میں کس طرح حصہ لیں۔ مزید عمیق معلومات کے لیے، پچھلے سال کی ڈجیٹل ہائی اسکول اور متخصص ہائی اسکول داخلے رہنما کتابچہ پڑھیں۔ براہ مہربانی توجہ کریں کہ کچھ وسائل اور معلومات میں اس خزاں میں تجدید کی جائے گی 2022 داخلوں میں کسی تبدیلی کی عکاسی کرنے کے لیے۔
- ہائی اسکول پروگرام کے انتخابات کی [MySchools.nyc](https://myschools.nyc.gov) ہائی اسکول ڈائریکٹری میں تحقیق شروع کریں۔ اس آن لائن ڈائریکٹری کا استعمال کرنے کے لیے آپکو ایک اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔

سوالات؟ اپنے بچے کے موجودہ اسکول مشیر سے رابطہ کریں یا HSEnrollment@schools.nyc.gov پر ای میل کریں۔

- اگر آپ کو یہ ای میل ایک دوست نے روانہ کی ہے مستقبل میں داخلوں کی جدید معلومات موصول کرنے کے لیے سائن اپ کریں۔
- اس سال ہائی اسکول میں درخواست نہیں دے رہے ہیں؟ مستقبل کی ای میلز سے ان سبسکرائب کرنے کے لیے یہاں کلک کریں۔

آپ کا شکر،

ہائی اسکول داخلہ ٹیم

دفتر برائے طالب علم اندراج